



سوال

(193) روزہ افطار کر لینے کے بعد سورج نکل آیا اب ؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اگر کسی جگہ سورج کے علاوہ وقت معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو، سورج بادلوں کی وجہ سے دکھائی نہ دیتا ہو۔ روزے دار نے یہ سمجھ کر کہ سورج غروب ہو گیا ہے روزہ افطار کر لیا پھر بادلوں کے پھٹ جانے سے معلوم ہوا کہ سورج تو ابھی غروب نہیں ہوا۔ اب کیا کیا جائے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جمہور علماء کے نزدیک ایسے روزے کی قضا دینا واجب ہے :

فہذب الجمهورالی بہجاب القضاء (فتح الباری 28/9)

ایسا ہی ایک واقعہ عہد نبوی میں رونما ہوا تھا، اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :

"أفطرنا علی عبد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم غیم ثم طلعت الشمس" (بخاری، الصوم، اذا افطر فی رمضان ثم طلعت الشمس، ج: 1959)

"ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ جس دن آسمان پر بادل تھے، روزہ افطار کر لیا پھر سورج نکل آیا۔"

ہشام بن عروہ سے، جو کہ اس حدیث کے ایک راوی ہیں، پوچھا گیا کہ کیا انہیں قضا کرنے کا حکم دیا گیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا اس کے بغیر بھی کوئی چارہ تھا؟ (ایضاً)

البتہ سورج ظاہر ہونے پر روزے دار کو یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ روزے سے ہے اور غروب آفتاب پر روزہ افطار کیا جائے۔

صورت مستولہ میں ایسے روزے کی قضا میں ہی احتیاط ہے اگرچہ امام ابن تیمیہ اور امام بن قیم رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک ایسے روزے کی قضا نہیں ہے۔

مذکورہ مسئلہ کی تفصیل کے لیے دیکھیے (البدواؤد، الصوم، الفطر قبل غروب الشمس، ج: 2359، ابن ماجہ، الصیام، ما جاء فی من افطرنا سیا، ج: 1673، 1674، مسند احمد 346/6 اور المغنی، الصیام، مسئلہ۔۔ او افطر یظن ان الشمس قد غابت ولم تغب فغلیہ القضاء)



هذا ما عندي والتدا علم بالصواب

فتاویٰ افکار اسلامی

رمضان المبارک اور روزہ، صفحہ: 459

محدث فتویٰ